

برائے فوری اجراء

اس مرتبہ برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کا دن پہلے سے کہیں بڑا ہو گا

برامپٹن، آن (13 جون 2019) – تازہ پیداوار، مزیدار غذائیں، دستکاریوں کے انمول نمونے اور مزید بہت کچھ – برامپٹن کی انتہائی ہر دلغیز فارمر مارکیٹ ایک مرتبہ پھر نئے سیزن کے لیے کھلنے جا رہی ہے۔

شہری اور سیاح ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں مین اسٹریٹ پر بروز ہفتہ مورخہ 15 جون 2019 کو صبح 7 تا دن 1 بجے تک منعقد ہونے والے [برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح](#) میں شرکت کے موقع کو ہر گز ضائع نہیں کرنا چاہیں گے۔ مارکیٹ کے پہلے دن کا آغاز براہ راست تفریح، مہمان خصوصی جناب فرینکی فلاورز کی جانب سے باغبانی کے مشوروں، خاندان دوست سرگرمیوں، بے تباہ تازہ پیداوار اور پوری کمیونٹی کی دلچسپی کی دیگر سرگرمیوں سے ہو گا۔

اس سال پورے مارکیٹ سیزن کے دوران، سٹی مارکیٹ کے تجربہ کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے خصوصی تقاریب، سرگرمیوں اور 70 سے زائد فروخت کنندگان کا اضافہ کر رہا ہے۔ جھلکیوں میں شامل ہیں ایک آرٹسٹس مارکیٹ پلیس جس میں فنون، دستکاریوں اور ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء برائے فروخت ہوں گی۔ شرکاء گارڈن اسکوائر میں ہر ہفتے صبح 10 تا دوپہر 12 بجے تک منعقد ہونے والے مارکیٹ پروگرامنگ سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جس میں کھانے پکانے اور باغبانی سے لے کر براہ راست تفریح تک ہر چیز کے بارے میں خصوصی مظاہرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ گارڈن اسکوائر پروگرامنگ کو حکومت اونٹاریو کی جانب سے مالی معاونت حاصل ہے۔ مکمل شیڈول کے لیے [گارڈن اسکوائر کا ویب صفحہ](#) ملاحظہ کریں۔

برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے دو منفرد تقریبات بھی منعقد کی جائیں گی:

1. پوپ اپ سول میرج سیرمنی

رہائشیوں اور سیاحوں کو تہ دل سے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ صبح 10 تا دن 1 بجے تک برامپٹن سٹی ہال کی سیڑھیوں پر پہلی مرتبہ منعقد ہونے والی [پوپ اپ سول میرج سیرمنی](#) دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ پہلے سے رجسٹر شدہ 9 جوڑوں کو موقع پر ہی رشتہ ازدواج میں باندھ دیا جائے گا

2. فینر ڈیل فار برامپٹن (#FairDealForBrampton) کا لنچ

برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کے دن پر نگہداشت صحت کے لیے فینر ڈیل فار برامپٹن مہم کا آغاز بھی ہو گا، جبکہ برامپٹن نگہداشت صحت کے نظام کے لیے صوبہ سے مالی معاونت کی فراہمی کے بارے میں بھی درخواست کرے گا۔ اس عرضداشت پر دستخط اور مزید جاننے کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں۔

برامپٹن فارمرز مارکیٹ کا انعقاد 15 جون تا 12 اکتوبر 2019 تک صبح 7 تا دن 1 بجے تک ہر ہفتہ کے دن کیا جائے گا۔

ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج نائیٹ مارکیٹ

موسم گرما کے دوران برامپٹن رات کی ایک مارکیٹ کا انعقاد بھی کرتا ہے۔ ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج نائیٹ مارکیٹ کا انعقاد 20 جون تا 10 اکتوبر 2019 تک دن 4 تا شام 8 بجے تک ہر جمعرات کے دن کیا جائے گا۔ فروخت کنندگان میں شامل ہیں تیار شدہ کھانوں کے فروخت کنندگان اور دستکار اور اس کے علاوہ ہفتہ وار تقریبات اور سرگرمیاں۔
برامپٹن کی مارکیٹس کے متعلق مزید معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

اقتباس

"صبح کے اوقات میں برامپٹن فارمرز مارکیٹ سے لے کر شام کے اوقات میں ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج نائیٹ مارکیٹس کے انعقاد تک، اوٹ ڈور مارکیٹ کا تجربہ فراہم کرنے میں برامپٹن اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ برامپٹن مارکیٹس کا اس پرجوش سیزن میں دوبارہ واپس آنے پر خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو ہر ہفتہ کے دن فارمرز مارکیٹ میں جانا

بہت پسند ہے اور میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ گھروں سے باہر تشریف لائیں اور اس سال بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ مارکیٹ کے فروخت کنندگان سے کھانے کی کچھ اشیاء خریدیں، براہ راست تفریح کے لیے گارڈن اسکوائر میں تشریف لے جائیں اور سڑوں و نظاروں کا خوب لطف اٹھائیں!"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کیٹیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیوں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca